

# الحاّقة

(Al-Haaqqa)

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

1	بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ الْحَاّقَّةُ	
		وہ برحق
2	مَا الْحَاّقَّةُ	
		وہ حق کی بات کیا ہے۔
3	وَمَا أَذْرَاكَ مَا الْحَاّقَّةُ	
		اور تم کو تو خوب معلوم ہے کہ وہ جو برحق ہے کیا ہوتا ہے
4	كَذَّبَتْ ثَمُودُ وَعَادٌ بِالْقَارِعَةِ	
		ثمود اور عاد نے اس سخت صدمہ دینے والی کو جھٹلایا،

5	فَأَمَّا ثَمُودُ فَأُهْلِكُوا بِالطَّاغِيَةِ	
		تو ثمود ہلاک کیے گئے حد سے گزری ہوئی نافرمانی سے
6	وَأَمَّا عَادُ فَأُهْلِكُوا بِرِيحٍ صَرْصَرٍ عَاتِيَةٍ	
		اور رہے عاد تو وہ ہلاک کیے گئے نہایت سخت گر جستی آندھی سے،
7	سَخَّرَهَا عَلَيْهِمْ سَبْعَ لَيَالٍ وَثَمَانِيَةَ أَيَّامٍ حُسُومًا فَتَرَى الْقَوْمَ فِيهَا صَرْعَى كَأَنَّهُمْ أُعِجَازٌ نَحْلٍ خَاوِيَةٍ	
		وہ ان پر کئی دن و رات لگاتار مسح کر کیا۔۔ سوان لوگوں کو بچھڑے ہوئے لوگوں میں دیکھو جو سوکھے ہوئے کھجور کے تنے کی طرح لوگ گرے ہوئے ہوں،
8	فَهَلْ تَرَى لَهُم مِّن بَاقِيَةٍ	
		اب کیا ان میں سے کوئی تمہیں باقی بچا نظر آتا ہے؟
9	وَجَاءَ فِرْعَوْنُ وَمَنْ قَبْلَهُ وَالْمُؤْتَفِكَاتُ بِالْحَاطِئَةِ	
		وہ اسی خطا کا ارتکاب فرعون اور اس سے پہلے کے لوگوں نے اور جھوٹ گھڑنے والی بستیوں نے کیا
10	فَعَصَوْا رَسُولَ رَبِّهِمْ فَأَخَذَهُمُ أَخَذَةً رَّابِيَةٍ	

	ان سب نے اپنے نظام ربوبیت کے پیامبر کی بات نہ مانی تو اس نے اُن کو بڑی سختی سے پکڑا	
11	إِنَّا لَنَاطَعِي الْمَاءِ حَمَلْنَاكُمْ فِي الْجَارِيَةِ	
	جب پانی کا طوفان حد سے گزر گیا تو ہم نے تم کو کشتی میں سوار کر دیا تھا	
12	لِنَجْعَلَهَا لَكُمْ تَذْكَرَةً وَتَعْيِبًا أَدْنَىٰ وَأَعْيِبُهُ	
	تاکہ اس واقعہ کو تمہارے لیے ایک سبق آموز یادگار بنادیں اور یاد رکھنے والے کان اس کی یاد محفوظ رکھیں	
13	فَإِذَا انْفَخَ فِي الصُّورِ نَفْحَةٌ وَاحِدَةٌ	
	پھر جب صور میں زبردست پھونک مار دی جائے گی اور زمین اور پہاڑوں کو اٹھا کر ایک ہی چوٹ میں ریزہ ریزہ کر دیا جائے گا.....contd.	
14	وَحَمَلَتِ الْأَرْضُ وَالْجِبَالُ فَدُكَّتَا دَكَّةً وَاحِدَةً	
	next page-----cont-----	
15	فَيَوْمَئِذٍ وَقَعَتِ الْوَاقِعَةُ	
	پس اس دن واقع ہونے والا واقعہ ہو جائے گا	

16	وَأَنشَقَّتِ السَّمَاءُ فَهِيَ يَوْمَئِذٍ وَاهِيَةٌ	
	اُس دن منصبِ اعلیٰ پھٹے گا اور اس کی بندش ڈھیلی پڑ جائے گی	
17	وَالْمَلَكُ عَلَىٰ أَرْجَائِهَا وَيَحْمِلُ عَرْشَ رَبِّكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَئِذٍ ثَمَانِيَةٌ	
	نازین احکامات اس کے اطراف و جوانب میں ہوں گے اور نازین احکامات اُس روز تیرے نظامِ ربوبیت کے نظام کی ذمہ داری اٹھائے ہوں گے۔	
18	يَوْمَئِذٍ تُعْرَضُونَ لَا تَخْفَىٰ مِنكُمْ خَافِيَةٌ	
	وہ دن ہو گا جب تم لوگ پیش کیے جاؤ گے، تمہارا کوئی راز بھی چھپا نہ رہ جائے گا	
19	فَأَمَّا مَنْ أُوْتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَيَقُولُ هَٰؤُلَاءِ أَقْرَبُ وَأَكْتَابِيهِ	
	اُس وقت جس کا نامہ اعمال اُس کے یمن و سعادت کے ساتھ دیا جائے گا وہ کہے گا "لو دیکھو، پڑھو میرا نامہ اعمال۔"	
20	إِنِّي ظَنَنْتُ أَنِّي مُلَاقٍ حِسَابِيهِ	
	مجھے تو معلوم تھا کہ مجھے ضرور اپنا حساب ملنے والا ہے۔	
21	فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَّاخِيَةٍ	



27	يَا لَيْتَهَا كَانَتِ الْقَاضِيَةَ	
		اے کاش اس نے میرا فیصلہ کر دیا ہوتا۔
28	مَا أَعْنَى عَنِّي مَالِيَّةٌ	
		مجھے میرے مال نے کوئی فائدہ نہ پہنچایا۔
29	هَلَكَ عَنِّي سُلْطَانِيَّةٌ	
		برباد ہو گئی مجھ سے میری سلطنت
30	خُذُوا وَهَذَا نَعْلُوهُ	
		پکڑو اور اسے عنلامی کے طوق پہناؤ
31	ثُمَّ الْجَحِيمِ صَلْوُهُ	
		پھر اسے قید خانے میں ڈال دو۔
32	ثُمَّ فِي سِلْسِلَةٍ ذَرْعُهَا سَبْعُونَ ذِرَاعًا فَاسْلُكُوهُ	
		پھر اسے لمبی پکڑ میں جبکڑ دو۔

33	إِنَّهُ كَانَ لَا يُؤْمِنُ بِاللَّهِ الْعَظِيمِ	
	یقیناً یہ عظیم قوانین قدرت کے تحت امن قائم نہیں کرتا تھا۔	
34	وَلَا يُخْضُّ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ	
	اور نہ ہی مسکین کو کھانا کھلانے کی ترغیب دیتا تھا۔	
35	فَلَيْسَ لَهُ الْيَوْمَ هَاهُنَا حَمِيمٌ	
	پس اس کا آج کوئی قریبی دوست نہیں۔	
36	وَلَا طَعَامٍ إِلَّا مِنْ غَسْلِينٍ	
	اور اس کے لئے اس کے کرتوتوں کی سزا کا پھل ہے	
37	لَا يَأْكُلُهُ إِلَّا الْخَاطِئُونَ	
	جسے صرف خطا کاروں کے سوا کوئی نہیں چکھتا۔	
38	فَلَا أُقْسِمُ بِمَا تُبْصَرُونَ	
	پس میں اس کی گواہی نہیں دیتا جو تم سمجھتے ہو۔۔۔۔۔contd۔۔۔۔۔ اور جو تم نہیں سمجھتے	

39	وَمَا لَا تُبْصِرُونَ	
		---contd--- اور جو تم نہیں سمجھتے۔
40	إِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ كَرِيمٍ	
		یہ ایک مکرم پیامبر کا قول ہے
41	وَمَا هُوَ بِقَوْلِ شَاعِرٍ قَلِيلًا مَّا تُؤْمِنُونَ	
		اور یہ کسی شاعر کی بات نہیں ہے۔۔۔ لیکن تم کم ہی لوگ ہو جو امن قائم کرتے ہو
42	وَلَا بِقَوْلِ كَاهِنٍ قَلِيلًا مَّا تَذَكَّرُونَ	
		اور نہ ہی یہ کسی نجومی کی بات ہے۔۔۔ لیکن کم ہی وہ لوگ ہیں جو یاد رکھتے ہیں
43	تَنْزِيلٌ مِّن رَّبِّ الْعَالَمِينَ	
		یہ تو تمام بستیوں کے نظام ربوبیت کی جانب سے دیا گیا ہے۔
44	وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْأَقَاوِيلِ	
		اگر وہ اپنی طرف سے کوئی بات گھڑ کر ہماری طرف منسوب کرتا۔



45	لَا خِزْيَ لَنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ	
		تو ہم اس کو یمن و سعادت کے اصولوں پر پکڑ لیتے۔
46	ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَتِينَ	
		اور پھر ہم اس کی رگِ حیات کاٹ دیتے۔
47	فَمَا مِنْكُمْ مِّنْ أَحَدٍ عَنْهُ حَاجِزِينَ	
		پس تم میں سے کوئی بھی ہمیں اس سے روکنے والا نہ ہوتا۔
48	وَإِنَّهُ لَعَذَابٌ لِّلْمُتَّقِينَ	
		بے شک یہ احکامات کے ساتھ ہم آہنگ رہنے والوں کیلئے ایک نصیحت ہے۔
49	وَإِنَّا لَنَعْلَمُ أَنَّ مِنْكُمْ مُّكَذِّبِينَ	
		اور ہم خوب جانتے ہیں کہ تم میں سے کچھ لوگ جھٹلانے والے ہیں۔
50	وَإِنَّهُ لَحَسْرَةٌ عَلَى الْكَافِرِينَ	
		اور یقیناً یہ کافروں کیلئے باعثِ حسرت ہے۔

51	وَإِنَّهُ لَحَقُّ الْيَقِينِ	
	اور بے شک وہ یقینی حق ہے۔	
52	فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ	
	پس تم اپنے عظمت والے نظام ربوبیت کے لئے جدوجہد کرتے رہو۔	